

ELL Advantage Video Series- ESL Programs in Peel Elementary Schools (اردو)

#	Title	Blurb
1	انگریزی بطور ثانوی زبان (ای ایس ایل) پروگرام کیا ہے؟	پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں، انگریزی کو بطور اضافی زبان سیکھنے والے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کیلئے خصوصی توجہ والی مختلف اقسام کی متعدد امداد دستیاب ہے۔ یہ ویڈیو انگریزی بطور ثانوی زبان (ای ایس ایل) پروگرام کے بارے میں ایک جائزہ فراہم کرتی ہے جو پیل کے اسکولوں میں دستیاب ہے۔ آپ اپنے مقامی پیل اسکولوں سے ای ایس ایل پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کیلئے اپنے پرنسپل سے بات کریں یا اس ویب سائٹ پر جائیں www.peelschools.org/parents/programs/ESL/urdu
2	طلباء کی گھر پر بولی جانے والی (مادری زبانوں) کی اہمیت	پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں، ہمارے خاندان بتاتے ہیں کہ 60 فیصد سے زائد بچے گھر پر انگریزی کے علاوہ دوسری زبانیں بولتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ گھر پر بولی جانے والی زبانیں ایک ایسا طاقتور وسیلہ ہے جو بچوں کو انگریزی سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔
3	انگریزی بطور ثانوی زبان (ای ایس ایل) پروگرام کے کیا فوائد ہیں؟	پیل کے اسکولوں میں انگریزی بطور ثانوی زبان (ای ایس ایل) پروگرام انگریزی سیکھنے میں طلباء کی مدد کرتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی بہترین قابلیت کو استعمال کر سکیں۔ پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ اس بات کو یقینی بنانے کا عزم رکھتا ہے کہ تمام انگریزی زبان سیکھنے والوں کو ایسی مدد مل رہی ہے جس سے ان کے سیکھنے کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے مقامی پیل اسکولوں سے ای ایس ایل پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے فوائد کے بارے میں اپنے پرنسپل سے بات کریں یا اس ویب سائٹ پر جائیں http://www.peelschools.org/parents/programs/ESL/urdu
4	انگریزی بطور ثانوی زبان (ای ایس ایل) میں مدد کس طرح کی ہے؟	پیل کے ایلیمینٹری اسکولوں میں انگریزی بطور ثانوی زبان (ای ایس ایل) پروگرام کلاس روم کے پروگرام سے علیحدہ نہیں ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے میں اساتذہ اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں کہ بچے جامع اور مؤثر طور پر سیکھ رہے ہیں۔ ہر طالب علم کی ضروریات کے مطابق پروگراموں کو معمول کے کلاس روم اساتذہ کے ساتھ تشکیل دیا جاتا ہے اور اگر ضرورت ہو تو کسی ای ایس ایل استاد کی اضافی مدد بھی دستیاب ہوتی ہے۔ آپ اپنے مقامی پیل اسکولوں سے یا ہمارے وی ویلکم دی ورلڈ سینٹرز (We Welcome the World Centres) سے ای ایس ایل پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے بچے کو دستیاب امداد کے بارے میں جاننے کیلئے اپنے پرنسپل سے بات کریں یا اس ویب سائٹ پر جائیں http://www.peelschools.org/parents/programs/ESL/urdu
5	انگریزی میں قابلیت کیلئے سٹیپس (Steps) کیا ہے (STEP)؟	پیل کے اسکول اونٹاریو وزارت تعلیم کے ایک ایسے وسیلے کو استعمال کرتے ہیں جسے سٹیپس ٹوانگلش پروفیشنلسی (STEPS) کہا جاتا ہے جو ایسے طلباء کیلئے ہے جو بیک وقت انگریزی اور اونٹاریو کے نصاب کی تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ STEP بچے کے انگریزی سیکھنے کی استعداد کا تخمینہ لگانے میں اساتذہ کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ ان کے سیکھنے کے اگلے مراحل کا تعین کریں۔ اپنے بچے اور اسکول کی شراکت سے مطمع نظر طے کرنے میں والدین STEP میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے مقامی پیل اسکولوں سے یا ہمارے وی ویلکم دی ورلڈ سینٹرز سے ای ایس ایل پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کیلئے اپنے پرنسپل سے بات کریں یا اس ویب سائٹ پر جائیں http://www.peelschools.org/parents/programs/ESL/urdu

بم پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں، طلباء، والدین اور اساتذہ کے درمیان اشتراک کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جب بچے تعلیمی انگریزی میں ماہر بنتے ہیں، تو یہ شراکت داریاں ہر طالب علم میں ترقی کیلئے جوش و جذبہ، اعتماد اور امید پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ جاننے کیلئے کہ ہر ایک اس میں کیسے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس ویب سائٹ پر جائیں http://www.peelschools.org/parents/involved	طلباء، والدین اور اساتذہ اکٹھے مل کر کس طرح کام کرتے ہیں؟	6